

18 جولائی 2018

**اوپن ڈیٹا پلیٹ فارم پر سٹی نے انٹرنیشنل ایوارڈ حاصل کیا ہے**  
ایسری 2018 اسپیشل ایجومنٹ ایوارڈ نے GIS ایوارڈ سے برامپٹن جیو ہب (GeoHub) کی کامیابیوں کا اعتراف کیا ہے۔

برامپٹن، آن: ایک مرتبہ پھر، جیو ہب میں اپنے جدت پسند اوپن ڈیٹا پلیٹ فارم کی کامیابی پر، سٹی آف برامپٹن کی کاوشوں کا ایک مرتبہ اعتراف کر لیا گیا ہے۔ ایسری آئی این سی، جو جیو گریفیکل انفارمیشن سروسز (GIS) میں عالمی طور پر چوٹی کا ادارہ ہے، نے GIS سافٹ ویئر کی نئی زبردست اور کاپیبلٹ ممکنات کو ظاہر کرنے پر شہر کو 2018 ایسری اسپیشل ایجومنٹ ان (SAG) GIS ایوارڈ دیا ہے۔

ایوارڈ جیتنے والے کینیڈا کے دو شہروں میں سے ایک کے طور پر، سٹی کو بہتر خدمات کی فراہمی کے لیے GIS ٹیکنالوجی کے مؤثر کاروباری نفاذ کے لیے 300,000 اہل امیدواروں میں سے چنا گیا۔

برامپٹن جیو ہب ایک اوپن ڈیٹا پلیٹ فارم اور اشتراکی ٹیکنالوجی ہے، جو لوگوں کے لیے عوامی معلومات تک رسائی کو آسان بناتی ہے۔ یہ ایسے نقشوں، ایپس، داستانوں اور ڈیٹا سیٹس کا مرکز ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ شہر میں کیا ہو رہا ہے، مثلاً:

- **سٹی ڈیش بورڈ:** سٹی کی بلدیاتی خدمات کی کارکردگی اور کمیونٹی کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کو دیکھیں۔
- **برامپٹن 2040 ویژن کا مجموعی جائزہ:** سٹی نے تمام عمر، پس منظروں اور تجربات کے حامل لوگوں سے برامپٹن کے زبردست مستقبل کے بارے میں اپنے روشن خیالات شریک کرنے کا کہا۔ نتائج کے بارے میں یہاں جانیں۔
- **پارکس اینڈ ریک لوکیٹر:** برامپٹن میں نئے ہیں یا صرف ایسی جگہوں کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں پر آپ نہیں گئے ہیں؟ اس کی مدد سے رہائشی اپنے علاقے کے پارکس، اسکول اور تفریحی سہولت گاہیں تلاش کر سکتے ہیں۔
- **روڈ ورکس ویور:** اپنے کام تک سفر کی منصوبہ بندی کرنے اور شہر میں ٹریفک کی رش سے بچنے میں مدد دینے کے لیے برامپٹن میں تعمیراتی پراجیکٹس اور سڑکوں کی بندش دیکھیں۔

ایسری ایک عالمی کمپنی ہے، جو ایسے بین الاقوامی معیار کے کاروباری GIS سلیوشنز فراہم کرتی ہے، جو کاروباروں، حکومتوں اور تعلیمی اداروں کو جغرافیہ کی طاقت کو استعمال میں لا کر وقت پر، آگاہ شدہ اور مشن کے لیے ضروری فیصلے کرنے کے قابل بناتی ہے۔ SAG ایوارڈز کا مقصد ایسی تنظیموں کو سراہنا ہے جو دنیا کے کچھ مشکل ترین مسائل کو حل کرنے کے لیے GIS استعمال کر رہے ہیں۔

یہ پہلی بار نہیں ہے، جب اوپن ڈیٹا کے حوالے سے سٹی کی کوششوں کا اعتراف کیا گیا ہے، جو بڑا سوچنے کے لیے ایک مسلسل عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک ایسے آلے کے طور پر، جو ڈیٹا کو تیزی سے دو طرفہ طریقے سے شریک کرنے اور ابلاغ کو ممکن بناتا ہے، جیو ہب شفافیت کو بڑھانا اور جدت پیدا کرنا جاری رکھ رہا ہے اور رہائشیوں کو ان کے ارد گرد کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے قابل بناتا ہے۔

برامپٹن جیو ہب کے بارے میں مزید جاننے کے لیے، ملاحظہ کریں <http://geohub.brampton.ca>

#### اقتباسات

"سٹی آف برامپٹن کی جانب سے اس بات کو ثابت کرنا جاری ہے کہ ہم بہترین طرز عمل اور جدت کی بلند چوٹی پر ہیں اور یہ کہ ہم ٹیکنالوجی میں عالمی رہنما بننے کے راستے پر گامزن ہیں۔ برامپٹن جیو ہب کے لیے تازہ ترین ایوارڈ جیتنے پر ہمارے عملے کو مبارک ہو، جو اس سخت محنت کا ایک اور مرتبہ اعتراف ہے، جو سٹی مستقبل کے لیے ایک تیار، اسمارٹ سٹی کو تعمیر کرنے کے لیے برامپٹن کے رہائشیوں کے لیے کر رہا ہے۔"

- میئر لنڈا جیفری

"عملے کے وقت اور ٹیکس دہندگان کے قیمتی پیسوں کو بچانے اور تمام رہائشیوں کے لیے عوامی معلومات تک رسائی کے حصول اور استعمال کو آسان بنانے کی غرض سے جیو ہب ایک مزید پرجتت برامپٹن کے لیے راستہ ہموار کرنے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے۔ اوپن ڈیٹا کی ٹیم کو ہماری جانب سے ایک اور زبردست کامیابی پر مبارک ہو۔"

- کونسلر گیل مائلز، کارپوریٹ سروسز چیئر

"سٹی آف برامپٹن مستقل کے لیے ایک تیار شہر بنانے اور بہترین سرکاری خدمات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ہماری GIS اور اوپن ڈیٹا ٹیم اس ویژن کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہے اور وہ اس کا پلٹ کام، جو وہ جیو ہب کے ساتھ کر رہے ہیں، کے ذریعے جدت کو فروغ دینے کے لیے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس امتیازی حیثیت کے لیے ایسری کی جانب سے ہماری محنت کا اعتراف ہمارے لیے باعث فخر ہے۔"

- جوزف پٹاری، کمشنر آف کارپوریٹ سروسز

فوری لنکس

- [سٹی آف برامپٹن کے ملازم نے اوپن سٹی جیمینن شپ ایوارڈ جیت لیا](#)
- [سٹی آف برامپٹن جیو ہب کی بناء پر ایسری کینیڈا کی جانب سے ایوارڈ آف ایکسیلنس موصول ہوا](#)
- [سٹی آف برامپٹن نے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں پیش رفت کے لیے دو ایوارڈ جیت لیے](#)

-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریٹور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نثر ہو۔ ہمیں فالو کریں [ٹویٹر](#) اور [فیس بک](#)۔ مزید جاننے کے لیے [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ فرمائیں۔